



The Absolute Reality

www.quran4u.com



وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا



اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات اس میں ہے اسکو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

ص

اردو ترجمہ Urdu Translation

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ع

ص

ص

وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1)

قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے (کہ تم حق پر ہو)

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2)

مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ

ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا

فَنَادُوا وَآلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ (3)

تو وہ (عذاب کے وقت) لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ^ط

اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ہدایت کرنے والا آیا

وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4)

اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادو گر ہے جھوٹا

أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا^ط

کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا!

إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ (5)

یہ تو بڑی عجیب بات ہے

وَأَنْطَلِقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُمُ^ط أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ

تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے (اور بولے) کہ چلو اپنے معبودوں (کی پوجا) پر قائم رہو

إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ بَرَاءٌ (6)

بیشک یہ ایسی بات ہے جس سے (تم پر شرف و فضیلت) مقصود ہے

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا خِتَابٌ (7)

یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے

أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا^ج

کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت (کی کتاب) اتری ہے؟

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي^ص

(نہیں) بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں

بَلْ لَمَّا يَدُوُّوا عَذَابَ (8)

بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9)

کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے

أَمْ لَهُمْ مَلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا^ص

یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان (سب) پر انہیں ہی کی حکومت ہے

فَلْيَبْتَئِقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10)

تو چاہیے کہ رسیاں تان کر (آسمانوں پر) چڑھ جائیں

جُنْدًا مَا هُنَّ لَكَ مَهْرٌ وَمِنْ الْأَخْزَابِ (11)

یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12)

ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون (اور اسکی قوم کے لوگ) بھی جھٹلا چکے ہیں

وَشَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

اور شمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی

أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13)

یہی وہ گروہ ہیں

إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ (14)

(ان) سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب (ان پر) آواغ ہوا

وَمَا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهُمْ مِنْ فَوَاقٍ (15)

اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں (شروع ہوئے پیچھے) کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16)

اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ

(اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر

کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے

إِنَّهُ أَوَّابٌ (17)

(اور) بیشک وہ رجوع کرنے والے تھے

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18)

ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ (خدائے) پاک (کا ذکر) کرتے تھے

وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً

اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے

كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19)

سب ان کے فرمانبردار تھے

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ

اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخِطَابِ (20)

اور ان کو حکمت عطا کی اور (خصوصیت کی) بات کا فیصلہ (سکھایا)

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخُسْفِ إِذْ تَسْوَمُونَ وَالْمِحْرَابِ (21)

بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ^{صل}

جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرائے

قَالُوا لَا تَخَفْ ^{صل}

انہوں نے کہا خوف نہ کیجئے

خَصْمَانِ بَعِيَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُمَ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ

ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر
زیادتی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا

وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22)

اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے

إِنَّ هَذَا أَخِي

(کیفیت یہ ہے کہ) یہ میرا بھائی ہے

لَهُ تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعَجَةً وَوَلِي نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ

اسکے (ہاں) نناوے دنبیاں ہیں اور میرے (پاس) ایک دنبی ہے

فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْحِطَابِ (23)

یہ کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ^{صل}

انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دہنی مانگتا ہے کہ اپنی دہنیوں میں ملا لے

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

بیشک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^{قل}

ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں

وَضَنَّ دَاوُدُ أَنَّهُ مُفْتَنًا

اور داؤد نے خیال کیا کہ (اس واقعے سے) ہم نے ان کو آزمایا ہے

فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24) ^ح

تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور (خدا کی طرف) رجوع کیا

فَعَفَّرْنَا لَهُ ذَلِكَ ^{صل}

تو ہم نے ان کو بخش دیا

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسْنَ مَأَبٍ (25)

اور بے شک ان کے لئے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی

إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)

جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب (تیار) ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات اس میں ہے اسکو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا

ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27)

سو کافروں کے لئے دوزخ کا عذاب ہے

أَمْ جَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا انکو ہم انکی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں

أَمْ جَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَّارِ (28)

یا پرہیز گاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ

(یہ) کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں

وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29)

اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ^ج

اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کئے

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ^{صل} (30)

بہت خوب بندے (تھے اور) رجوع کرنے والے تھے

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِيَاتُ الْجِيَادُ (31)

جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کئے گئے

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32)

تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے (غافل ہو کر) مال
کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ (آفتاب) پردے میں چھپ گیا

رُدُّوهَا عَلَيَّ^{صل}

(بولے کہ) ان کو میرے پاس واپس لے آؤ

فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْتَاقِ (33)

پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا

اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا

ثُمَّ أَنَابَ (34)

پھر انہوں نے (خدا کی طرف) رجوع کیا

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي

(اور) دعا کی اے پروردگار مجھے مغفرت کر

وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يُتَّبِعُنِي إِلَّا حَدِيثًا مِنْ بَعْدِي ^{صل}

اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایان نہ ہو

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35)

بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ أَمْرًا فَإِذَا هِيَ كَأْسٌ مَبْرُوءَةٌ (36)

پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی

وَالشَّيَاطِينِ

اور دیووں کو بھی (ان کے زیر فرمان کیا)

كُلَّ بِنَاءٍ وَعَوَّاصٍ (37)

وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے

وَأَخْرَيْنَ الْمُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38)

اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے

هَذَا عَطَاؤُنَا

(ہم نے کہا) یہ ہماری بخشش ہے

فَأَمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39)

(چاہو) تو احسان کرو (چاہو تو) رکھ چھوڑو (تم سے کچھ) حساب نہیں ہے

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسْنَ مَأْبٍ (40)

اور بیشک ان کے لئے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ

اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ (بار الہا)

أَيُّ مَسِّئِي الشَّيْطَانِ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41)

شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے

أَرَا كُنُصْبٍ بِرَجُلِكَ^ط

(ہم نے کہا زمین پر) لات مارو

هَذَا مَغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42)

(دیکھو) یہ (چشمہ نکل آیا) نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو (شیریں)

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ

اور ہم نے ان کو اہل (وعیال) اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشنے

رَحْمَةً مِّمَّا وَذَكَرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43)

(یہ) ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لئے نصیحت تھی

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تُخَدِّثْ^ط

اور اپنے ہاتھ جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو

إِنَّا وَجَدْنَاكَ صَابِرًا^ج

بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ^ط (44)

بہت خوب بندے تھے بیشک وہ رجوع کرنے والے تھے

وَإِذْ كُرِّعِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45)

اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور آنکھوں والے تھے

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذُكِّرَى الدَّارِ (46)

ہم نے ان کو ایک (صفت) خاص (آخرت کے) گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ (47)

اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے

وَإِذْ كُرِّ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (48)

اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو اور وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے

هَذَا ذِكْرٌ

یہ نصیحت ہے

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49)

اور پرہیزگاروں کیلئے تو عمدہ مقام ہے

جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُمْتَحِنَةٍ لَهُمْ الْأَبْوَابُ (50)

ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے

مُتَّكِنِينَ فِيهَا يُدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51)

ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور (کھانے پینے کے لئے) بہت سے میوے اور شراب منگواتے رہیں گے

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ الْأَتْرَابُ (52)

اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی (اور) ہم عمر (عورتیں) ہوں گی

هَذَا أَمْثَلُ عَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (53)

یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لئے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا

إِنَّ هَذَا الرِّزْقُ نَامَالُهُ مِنْ نَقَادٍ (54)

یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا

هَذَا

یہ (نعمتیں تو فرماں برداروں کے لئے ہیں)

وَإِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّ مَا بٍ (55)

اور سرکشوں کے لئے برا ٹھکانا ہے

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيُبْسِ الْمِهَادُ (56)

(یعنی) دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے

هَذَا أَفْلَيْدٌ وَتُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57)

یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ (ہے) اب اس کے مزے چکھیں

وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (58)

اور اسی طرح کے اور بہت سے (عذاب ہوں گے)

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ^ط

یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی

لَا مَرْجَا بَهُمْ^ج إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (59)

ان کو خوشی نہ ہو یہ دوزخ میں جانے والے ہیں

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْرَحِبَابِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتُّمُوا لَنَا^{صل}

کہیں گے کہ بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو تم ہی یہ (بلا) ہمارے سامنے لائے

فَبَيِّنُوا الْقُرْآنَ (60)

سو (یہ) برا ٹھکانا ہے

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا أَفَرَدُّهُ عَذَابًا ضِعْفًا لَنَا (61)

وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دو ناعذاب دے

وَقَالُوا أَمْ آتَانَا لَنْزِيلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (62)

اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ (یہاں) ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے

أَتَّخَذْنَا لَهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ رَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ (63)

کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا (ہماری) آنکھیں ان (کی طرف) سے پھر گئی ہیں؟

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64)

بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ^{صل}

کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65)

اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66)

جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب (اور) بخشنے والا

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67)

کہہ دو کہ یہ ایک بڑی (ہولناک چیز کی) خبر ہے

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68)

جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يُخْتَصِمُونَ (69)

مجھ کو اوپر کی مجلس (والوں) کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا

إِنِّي وَحْيِي إِلَيَّ إِلَّا أَمْرًا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (70)

میری طرف تو یہی وحی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71)

جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ مٹی سے انسان بنانے والا ہوں

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72)

جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73)

تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74)

مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي^ص

(خدا نے) فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں

سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟

أَسْتَكْبِرُتَ

کیا تو غرور میں آگیا؟

أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75)

یا اونچے درجے والوں میں تھا

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ^ص

بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76)

(کہ) تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِمٌ (77)

فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78)

اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت (پڑتی) رہے گی

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْني إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (79)

کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80)

کہا مہلت دی جاتی ہے

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81)

اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82)

کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا تا رہوں گا

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)

سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں

قَالَ فَالْحَقُّ

کہا (سچ) ہے

وَالْحَقُّ أَقُولُ (84)

اور میں بھی سچ کہتا ہوں

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85)

کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86)

(اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دو کہ تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (87)

یہ قرآن تو اہل عالم کے لئے نصیحت ہے

وَلِتَعْلَمَنَّ نَبَأُكَ بَعْدَ حِينٍ (88)

اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا

